

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن نے ایک شاندار مالی ایوارڈ جیت لیا ہے

برامپٹن، آن (8 مارچ 2022) – مسلسل 20 سال بھی، سٹی آف برامپٹن نے ریاستہائے متحدہ اور کینیڈا کی گورنمنٹ فنانس آفیسرز ایسوسی ایشن (GFOA) کی جانب سے عطا کی جانے والا کینیڈین ایوارڈ فار فنانشل رپورٹنگ (CANFR) جیت لیا ہے۔

CANFR ایوارڈ جو سٹی کی 2020 سالانہ فنانشل رپورٹ پر عطا کیا گیا ہے، میں حکومت کی اکاؤنٹنگ اور فنانشل رپورٹنگ میں نمایاں کارکردگی کو تسلیم کیا گیا ہے اور یہ مقامی حکومت اور اس کے انتظامات کے حوالے سے ایک اہم کارنامے کا بھی اعتراف کرتا ہے۔

برامپٹن نے کینیڈا کے چارٹرڈ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس (CPA) کے پبلک سیکٹر اکاؤنٹنگ بورڈ (PSAB) کی جانب سے مقرر کردہ جینرلی ایکسیپیٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز (GAAP) کے کم سے کم تقاضوں سے تجاوز کر کے اور ایک جامع اور اعلیٰ معیار کی سالانہ فنانشل رپورٹ تیار کر کے یہ CANFR ایوارڈ جیتا ہے۔ جس کی بنیادیں شفافیت اور حکومتی معلومات کے مکمل انکشاف کی روح سے جڑی ہوئی ہے۔

CANFR ایوارڈ پروگرام کینیڈا میں میونسپل حکومتوں کو اعلیٰ معیار کی فنانشل رپورٹیں شائع کرنے اور ان رپورٹوں کو تیار کرنے والے افسران کے لیے ان کے ہم مرتبہ رفقاءے کار کی جانب سے ان کی کاوشوں کو تسلیم کیے جانے اور انہیں تکنیکی رہنمائی فراہم کرنے کی ترغیب دینے کے مقصد کے تحت قائم کیا گیا تھا۔

سالانہ فنانشل رپورٹ کا جائزہ کینیڈا کی غیر جانبدار ریویو کمیٹی کے ممبران نے اس پروگرام کے اعلیٰ معیار پر پورا اترنے کے لیے لیا ہے، جس میں ایک تعمیری "مکمل انکشاف کی روح" کا اظہار کرنا شامل ہے اور اس کا مقصد برامپٹن کی مالی صورت حال کا ایک واضح خاکہ پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ ممکنہ صارفین اور صارفین کے گروہ اس رپورٹ کو پڑھنے میں رغبت حاصل کریں۔

### اقتباسات

"مالیاتی رپورٹنگ کے لیے باوقار CANFR ایوارڈ کا جیتنا، مکمل شفافیت اور درست مالیاتی طریقوں کے حوالے سے ہمارے عزم کو تسلیم کرتا ہے اور سرمایہ کاری کو اپنی جانب راغب کرنے کے حوالے سے برامپٹن کی کاوشوں کو تقویت پہنچاتا ہے۔ سٹی کو یہ ایوارڈ لگاتار بیسویں سال ملنا ہمارے لیے انتہائی فخر کا باعث ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"CANFR پروگرام کی سخت شرائط کو پورا کرنے کے لیے ہمارے عملے کو انتہائی اہم عزم کے عملی اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہماری سالانہ مالیاتی رپورٹ تیار کرنے میں معاون کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ برامپٹن نے لگاتار بیسویں سال بھی یہ ایوارڈ جیتا ہے اور رپورٹ کو تیار کرنے میں شامل تمام افراد کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔"

- ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز 9 اور 10؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"CANFR ایوارڈ کا حصول سٹی آف برامپٹن اور اس کے عملے کے شاندار کارناموں کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ برامپٹن ایک اچھی طرح سے چلایا جانے والا شہر ہے اور ہم شفافیت اور مکمل انکشاف کے اصولوں کے پابند ہیں۔ اس ایوارڈ کا حصول ہمارے عملے اور مالیاتی رپورٹنگ میں سٹی کے اعلیٰ معیارات کا ثبوت ہے۔"

- پال موريسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ  
سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)